

اکائی III

بچپن

اس اکائی کا موضوع بچپن ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کتاب میں نوبل وفت کے زمانے کا ذکر پہلے اور بچپن بعد میں کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک نوبالغ کی حیثیت سے اپنے مسائل کو سمجھ لیں۔ جس سے آپ کو بچپن اور پھر اس کے بعد ایک بالغ فرد کی زندگی کے معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس اکائی میں آپ بچوں کی نمو (growth)، صحت، تغذیہ، تعلیم اور کپڑوں سے متعلق معاملات کا مطالعہ کریں گے۔ چوں کہ جو بچے کسی بھی اعتبار سے معذور ہیں وہ بھی سماج کے ایک لازمی حصے کے طور پر زندگی گزاریں اس لیے ہم نے اس کتاب میں ان کی ضروریات اور انھیں پورا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی اہم معلومات شامل کی ہیں۔

بقا، نمو اور نشو و نما

(Survival, Growth and Development)

آموزشی مقاصد

- اس باب کے مطالعے کے بعد طلبا
- بقا، نمو اور نشو و نما کے تصورات کی وضاحت کر سکیں گے۔
- نمو اور صحت کے درمیان تعلق کا تجزیہ کر سکیں گے۔
- بچپن کے مختلف مرحلوں کی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔
- نشو و نما کے اہم مراحل کی وضاحت کر سکیں گے۔
- بچپن کے مختلف ادوار میں نشو و نما کا جائزہ لے سکیں گے۔

11.1 بقا کا مفہوم (The Meaning of Survival)

لفظ بقا کے بہت سے معنی ہیں۔ لیکن عام طور پر اس لفظ کا تعلق 'زندہ رہنے' اور 'زندگی کے ضروری افعال انجام دینے' سے ہے۔ جب بچوں کو نگہداشت، ضروری غذا اور بیماری پیدا کرنے والے عضویوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں اور بنیادی افعال انجام دینے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ تغذیہ کی کمی یا کسی انفیکشن کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ان 'حملوں' پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی بقا کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اگر بچوں کا تعلق کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے تو انہیں زائد غذا مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے جس میں تغذیاتی عناصر مناسب مقدار اور تناسب میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ شیر خوارگی اور بچپن کے دوران ہونے والی مہلک بیماریوں جیسے تپ دق، کالی کھانسی، خناق (Diphtheria)، پولیو اور ٹینس (Tetanus) وغیرہ کے ٹیکے لگانا بھی ضروری ہے۔ ملیریا اور نمونیا جیسی بیماریاں بھی بچوں کی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہوتی ہیں۔


یو سی سیف کی 2007 کی رپورٹ کے مطابق تمام دنیا میں تقریباً 9 کروڑ 20 لاکھ پیدا ہونے والے بچے اپنے پانچویں یوم پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 30 لاکھ بچوں کا تعلق دنیا کے اس حصے سے ہے جس میں ہم رہتے ہیں یعنی جنوبی ایشیا۔ ان میں سے بیشتر بچے ترقی پذیر ملکوں میں رہتے ہیں اور ایسی بیماریاں یا بیماریوں سے فوت ہوتے ہیں جن کی بہ آسانی روک تھام اور علاج ممکن ہے۔ مثلاً اینٹی بائیوٹک دواؤں سے نمونیا کا یا نمک اور چینی کے سادہ گھول سے دستوں کا علاج۔ ان میں سے ایک تہائی اموات کا سبب قلتِ تغذیہ (Malnutrition) ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں پانچ سال سے کم عمر میں فوت ہونے والے 17 فی صد بچے یا ہر سال تقریباً 20 لاکھ بچے دستوں سے متعلق بیماریوں سے فوت ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ بیماریاں ساری دنیا میں بچوں کی موت کا دوسرا سبب سے بڑا سبب ہیں۔

بچوں کی اموات کا بڑا گہرا تعلق غربتی سے ہے۔ شیرخواروں اور بچوں کی بقا میں پیش رفت غریب ملکوں میں زیادہ سست روی سے ہوتی ہے۔ یہی صورت حال دولت مند ملکوں کے غریب ترین لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ صحت عامہ خدمات، مثلاً صاف پانی اور صفائی کی فراہمی (Sanitation) میں بہتری بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور خاص طور پر لڑکیوں اور ماؤں کی تعلیم بھی بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ آمدنی میں اضافے سے بھی بڑی مدد ملے گی لیکن جب تک اس بات کو یقینی بنانے کی کوششوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا کہ یہ خدمات ان لوگوں کو فراہم ہوں جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ صحت سے متعلق ضروری خدمات میسر کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش نہیں کی جاتی، اس مقصد کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ بچے کی نمو مناسب طور پر اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے ماحول میں تمام لازمی اشیاء مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ بچے کے محض زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمو بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔

درحقیقت ایسی حالتوں میں بچوں کی نمو پوری طرح رک بھی سکتی ہے۔ اس کو نمو کا فقدان (Growth Failure) کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے نمو کیسے کرتے ہیں۔

11.2 نمو اور نشوونما (Growth and Development)

ہم نے اس کتاب میں نمو اور نشوونما کے الفاظ کا بار بار استعمال کیا ہے۔ کیا ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے یا یہ الگ الگ ہیں؟ ان دونوں کا مفہوم تھوڑا مختلف ہے۔ نمو (Growth) کا تعلق، سائز اور مقدار (Quantity) سے ہے یعنی وہ جسمانی تبدیلیاں ہیں جن کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف نشوونما (Development) سے مراد کیفیت (Quality) کی تبدیلیوں یعنی وزن، قد اور داخلی اعضا کے سائز میں اضافے سے ہے۔ لیکن نمو صرف ہمارے جسمانی قد میں ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نومولود، بیس سال کی عمر میں بھی ایک بڑا بچہ ہی نظر آتا۔ قد بڑھنے کے ساتھ ہی جسم کے اعضا کی شکل، پیچیدگی اور ان کے افعال میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس طرح بچہ اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے، بستر پر لڑھکنے لگتا ہے، پھر بیٹھنا شروع کرتا ہے، گھٹنوں پر چلتا ہے، پھر چلنا سیکھ لیتا ہے اور بھاگنے بھی لگتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں کیفیاتی (Qualitative) ہیں۔ ان تمام کیفیاتی تبدیلیوں کے اندر



شکل 1: عمر کے لحاظ سے بچوں کا قد

ماخذ: عالمی صحت تنظیم (WHO) سے لیا گیا۔

ایک مقدار کی تبدیلی (Quantitative change) بھی ہوتی ہے۔ اس طرح جب بچہ بیٹھنے لگتا ہے تو وہ خاصی دیر تک گرے بغیر بیٹھا رہ سکتا ہے، جب بچہ دوڑنے لگتا ہے تو تیز اور پھر اور زیادہ تیز دوڑنے لگتا ہے۔ اوپر دی گئی تصویر دیکھیے۔ اس میں عمر کے لحاظ سے بچے کا قد دکھایا گیا ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ جب بچہ شیر خوارگی کے زمانے سے پری اسکول سطح تک پہنچتا ہے تو اس کا قد بھی بڑھ جاتا ہے اور وزن بھی۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں مثلاً سر اور سینے کے تناسب (Proportions) میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن کیا صرف یہی کچھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ، جسم کے اعضا کا سائز بھی لگاتار بڑھتا ہے اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل پری اسکول سطح پر رک نہیں جاتا بلکہ اسکول کے پورے زمانے اور پھر نوبلوغت تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بچے کا جسم بالغ ہو کر اپنی جسمانی ساخت اور کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔

نشو و نما کا تعلق خاص طور پر جسمانی تبدیلیوں سے ہے لیکن نشو و نما بہ یک وقت بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ بچے میں سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ رشتے بناتا ہے، اپنے جذبات کو سمجھتا اور ان کو پورا کرنے

سرگرمی 1

کیا مندرجہ ذیل تبدیلیوں کو نشوونما کہا جاسکتا ہے؟

- چلنے سے دوڑنے تک
- یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی فلم دیکھی جائے یا نوبلوغت کے دوران میں کون سا پیشہ اختیار کیا جائے
- اپنے جوابات کی وجہ بھی بتائیے اور اپنے کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ ان پر گفتگو کیجیے۔

کے لیے اہتمام کرتا ہے اور بتدریج پیچیدہ جملے بولنے لگتا ہے۔ اس طرح نشوونما کثیر جہتی (Multifaceted) ہوتا ہے۔ ہم نشوونما کی تعریف اس طرح بیان کر سکتے ہیں: ”یہ وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی ساختوں، نفسیاتی خصوصیات، رویوں اور سوچنے کے طریقوں کا ایک ترتیب وار اظہار ہے جو زندگی کے تقاضوں کے موافق ہوتا ہے“۔ یہ تبدیلیاں تدریجی (Progressive) ہوتی ہیں اور ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہیں۔ تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں بچہ ایسی مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل کر لیتا ہے جو اس کی سابقہ مہارتوں اور صلاحیتوں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ، تیز تر اور زیادہ موثر ہوتی ہیں۔ ”ترتیب وار“ کا مطلب یہ ہے کہ نشوونما میں ایک ترتیب بھی ہوتی ہے۔ ہر نشوونما اپنے سابقہ مرحلے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ان تبدیلیوں کو نشوونما کی صورت بھی حاصل ہوتی ہے جب وہ خاصے طویل عرصے تک برقرار رہیں۔ جب کوئی شیرخوار بھوک سے روتا ہے تو یہ اس کے طرز عمل (Behaviour) میں ایک تبدیلی کا اشارہ ہے لیکن جیسے ہی بچے کو غذا دے دی جاتی ہے، وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ رونے کا یہ عمل ایک ذرا دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس مختصر تبدیلی کو نشوونما نہیں کہا جاسکتا۔

11.3 نشوونما کے دائرے (Areas of Development)

آئیے نشوونما کے دائروں کی تعریف کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ہمیشہ ایک جامع شخص کی حیثیت سے رہتے ہیں لیکن سائنسی مطالعے کے مقصد سے ہم نشوونما کے مختلف پہلوؤں کو الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ کسی فرد کی زندگی میں نشوونما کی مختلف صورتوں کو اس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جسمانی نشوونما، حرکی نشوونما (Motor Development)، حسی نشوونما (Sensory Development)، وقوفی نشوونما (Cognitive Development)، لسانی نشوونما، سماجی، جذباتی اور شخصی نشوونما۔

جسمانی نشوونما سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہنے کے دوران ہی جسم ساز، اس کے مختلف حصوں کی ساخت اور ان کے تناسب میں پیدا ہوتی ہیں۔

حرکی نشوونما کا تعلق جسم کی ان حرکات پر قابو پانے سے ہے جس سے جسم کے مختلف حصوں کے درمیان باہمی رابطہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی نشوونما سے جسم بڑھتا ہے جب کہ حرکی نشوونما جسم کی حرکات کو موثر اور ہموار بناتا ہے اور ان پر قابو رکھتا ہے۔ جسم کے عضلات کی حرکت پر قابو پانے سے ہی مختلف حرکات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ حرکی نشوونما دو قسم کی ہوتی ہے۔ وسیع تر حرکی نشوونما (Gross motor development) کا تعلق جسم کے بڑے عضلات (Muscles) جیسے کندھوں، ران، اوپری بازو، مچلا بازو، پیٹ اور کمر وغیرہ پر قابو پانے سے ہے۔ ان پر قابو پا کر ہم بیٹھ سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، چل سکتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو ہلا سکتے ہیں۔ لطیف حرکی نشوونما (Fine motor development) کا مطلب ہے جسم کے چھوٹے عضلات جیسے

کلائیوں، انگلیوں اور انگوٹھوں وغیرہ پر قابو رکھنا جس کے نتیجے میں ہم لکھ سکتے ہیں، کتاب کے اوراق پلٹ سکتے ہیں، سلائی اور بُنائی کر سکتے ہیں۔

وقوفی نشوونما کا مطلب ہے بچے کے اندر ولادت کے وقت سے ہی سوچنے کی صلاحیتوں کا ظہور۔ جب بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سوچنے کے طریقے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ سوچنے کے انداز میں یہ تبدیلیاں ہماری ذہنی ساختوں اور اپنے تجربات کے بارے میں ہماری فہم میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کو وقوفی نشوونما کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے: ایک شیر خوار بچے کے آگے سے کوئی چیز بٹا دیجیے تو اس کا رویہ ایسا ہوگا جیسے اب اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لیکن اپنی عمر کے دوسرے سال کے دوسرے حصے میں بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگرچہ کوئی چیز اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی موجود ہے۔

حسی نشوونما حسی نشوونما کا مطلب ہے دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی حسی قوتوں میں ترقی۔ پیدائش کے وقت بھی بچے کی حسی قوتیں اچھی خاصی ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ عمر کے ساتھ ان کی مزید ترقی ہوتی ہے اور زیادہ بہتری آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نومولود بچہ ان چیزوں یا چیزوں پر اپنی نظر اچھی طرح مرکوز کر سکتا ہے جو اس سے آٹھ انچ دور ہوں۔ دھیرے دھیرے اس کی بصری قوتیں فروغ پاتی ہیں اور اس کی آنکھوں کو دور اور قریب کی چیزوں پر مرکوز ہونے کے قابل بنادیتی ہیں۔

لسانی نشوونما سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو بچے میں، جو پیدائش کے وقت صرف رو سکتا تھا، دوسروں کی باتیں سمجھنے اور مرکب جملے بولنے کی صلاحیت پیدا کردیتی ہیں۔

سماجی نشوونما کا تعلق ان صلاحیتوں کے فروغ سے ہے جو کسی فرد کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ سماج کی توقعات کے مطابق برتاؤ کر سکے

سرگرمی 2

مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک تبدیلی نشوونما کے کس دائرے کی نمائندہ ہے؟

- باہمی اشتراک کے لیے آموزش
- گلنے کی آموزش
- جملوں کا صحیح استعمال
- دوڑنے کے قابل ہونا
- قد کا بڑھنا
- غصے پر قابو پانا
- قینچی کا استعمال کرنا
- آواز کی طرف متوجہ ہونا

اور لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم اور برقرار رکھ سکے۔

جذبائی نشوونما کا تعلق جذبات پیدا ہونے اور ان کے اظہار کے سماجی طور پر قابل قبول طریقے سیکھنے سے ہے۔ شخصی نشوونما دائرہ ذات (Domain of self) سے متعلق ہے جس میں اس کے خیال کا ارتقا شامل ہے کہ کوئی فرد کون ہے؟ اس کی ذاتی صلاحیتیں اور مہارتیں کیا ہیں اور آگے چل کر وہ کیا ہونا چاہتا ہے۔

اگرچہ یہ سارے دائرے (شخصی، وقوفی، سماجی وغیرہ) الگ الگ بیان کیے گئے ہیں لیکن درحقیقت کسی بھی حقیقی صورت حال میں یہ ایک فرد کی زندگی کی مختلف جہات ہیں اور ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی سائیکل سیکھنے والے بچے (جسمانی نشوونما) کے بعض جذباتی معاملات (خوف یا جوش و خروش) بھی ہوتے ہیں اور سائیکل چلانا سکھاتے وقت ان کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔

نمو اور نشوونما کے لیے بہتر تغذیہ کی بہت اہمیت ہے۔ جب بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی تغذیاتی ضرورتیں بڑھ

جاتی ہیں۔ درحقیقت دس سال کی عمر سے ہی لڑکے اور لڑکیوں کی تغذیاتی ضرورتوں میں فرق آ جاتا ہے۔
بچپن کے مراحل کی زمرہ بندی کئی طرح سے کی جاتی ہے جن میں ایک طریقہ تغذیاتی ضرورتوں پر بھی مبنی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (ICMR) نے اسی طریقے کی سفارش کی ہے۔ اس طریقے پر مبنی بچپن کی زمرہ بندی اس طرح ہو سکتی ہے۔

- شیر خوارگی: پیدائش سے 6 ماہ، اور 6 سے 12 ماہ تک
- پری اسکول عمر: 1 سے 3 سال اور 4 سے 6 سال
- اسکولی عمر: 7 سے 9 سال اور 10 سے 12 سال

یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ 9 سال کی عمر تک لڑکوں اور لڑکیوں کی تغذیاتی ضرورتیں یکساں رہتی ہیں۔ عمر کے دسویں سال تک لڑکے اور لڑکیوں کی تغذیاتی ضرورتوں میں فرق آ جاتا ہے۔

آئیے اب نمو اور صحت کے درمیان رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معمول کی نمو اچھی صحت کی علامت ہے لیکن معمول کی نمو بجائے خود اچھی صحت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت سے وسائل اور حالات، مثلاً گھر میں تعلیمی اور جسمانی فروغ کے لیے مناسب تربیتی ماحول کی موجودگی نشوونما کی اہم منازل طے کرنے کے لیے لازمی ہیں۔ لیکن یہاں وسائل اور حالات سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ان میں ایک تو تربیتی ماحول (Stimulating environment) شامل ہے، دوسرے، مناسب مقدار میں ماں کا دودھ فراہم ہونا، محفوظ اور صاف ستھرا ماحول، مناسب صحت خدمات اور ماؤں کا بیڑی سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز وغیرہ بھی ان وسائل اور حالات میں شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں صحت سے وابستہ تمام عملی صلاحیتوں کے حصول کے لیے معمول کی نمو ایک ضروری شرط ہے لیکن اس کے لیے محض نمو ہی کافی نہیں ہے۔

تحقیقی مطالعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ پہلے پانچ سال میں تمام بچوں کی نمو یکساں طور پر ہوتی ہے بشرطیکہ ان کی عضویاتی (Physiological) ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ان کا ماحول ان کی صحت مند نشوونما کے لیے سازگار ہو۔ ماحولی حتموں، مثلاً جراثیم زدگی، یا اچھی غذا اور غذا کی صحیح مقدار کی کمی وغیرہ سے نمو پر برا اثر پڑتا ہے اور اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ ہندوستان میں خوش حال گھروں کے بچوں کی نمو ترقی یافتہ ملکوں کے بچوں کی طرح ہی ہوتی ہے، خاص طور پر جب والدین کی تعلیمی سطح بھی اونچی ہو۔
بچوں کی نمو پر نظر رکھنے کے لیے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر نمو کے چارٹ، استعمال ہوتا ہے۔ معمول کے نمو سے متعلق چارٹ کے خم (Curve) مسلسل اوپر کی طرف اٹھتا ہے لیکن اگر کہیں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس خم میں خلل آ جاتا ہے۔ ایسے میں یہ خم چپٹا ہو جاتا ہے یا پھر اس کا رخ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ نشوونما کے خم کا درج ذیل صورتوں میں کیا مطلب ہے:

- چپٹا کرنا (flattening)
- اوپر کی سمت (an upward direction)
- نیچے کی سمت (a downward direction)

سرگرمی 3



اوپر دی گئی شکل میں ایک معمول کی نموکا خم دکھایا گیا ہے۔ اب درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

- 1- کسی بچے کو شدید اسہال ہوا ہے۔ اس کا نموکا خم پر کیا اثر ہوگا؟
- 2- قلت تغذیہ کے شکار بچے کو دو ماہ تک اچھی غذا دی جائے تو اس کے نموکا خم میں کیا تبدیلی آئے گی؟

246

خم کے چھوٹے ہو جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمورک گئی ہے۔ اس کے اوپر اٹھنے کا مطلب ہے کہ نمو جاری ہے۔ اور اس کے نیچے کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ بچہ صحت مند نمو سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس بچے کو زائد غذا ملے اور اسے لاحق انفیکشن کا علاج کر دیا جائے تو نمو میں اضافے کا رجحان پھر نظر آنے لگے گا۔

11.4 ارتقا کے مراحل (Satages in Development)

اس باب کے پچھلے حصے میں ابھی تک آپ نے تغذیاتی ضرورتوں کی بنیاد پر انسان کی پوری عمر کی زمرہ بندی کرنے کے ایک طریقے کے بارے میں پڑھا ہے۔ بچے کی نشوونما کے پیش نظر، پوری عمر کی زمرہ بندی نشوونما کے مراحل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس اصطلاح سے مراد وہ خصوصی صلاحیتیں، اور مہارتیں ہیں جو بیشتر بچے ایک مخصوص عمر میں حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ان ہی صلاحیتوں اور مہارتوں کی بنیاد پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا کسی بچے کی نشوونما اس کی عمر کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان کو نشوونما کا اصول بھی کہا جاسکتا ہے۔ نشوونما کے ہر دائرے میں بعض مراحل ہوتے ہیں۔ یہ بات اس باب میں آگے چل کر واضح ہوگی۔

کسی انسان کی عمر کو پانچ مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: شیرخوارگی (پیدائش سے لے کر دو سال تک)، ابتدائی بچپن یا پری اسکول عمر (2 سے 6 سال تک)، درمیانی بچپن (7 سال سے 11 سال تک)، نوجوانی (11 سے 18 سال تک) اور بلوغت

(Adulthood) 18 سال اور اس کے بعد۔

اسی باب میں آپ مزید پڑھیں گے کہ ان مرحلوں کے دوران مختلف پہلوؤں یا دائروں (Domains) میں نشوونما کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ جسمانی نشوونما اور لسانی نشوونما (language development) ان دائروں کی دو مثالیں ہیں۔ مختلف دائروں میں نشوونما کے عمل کو بیان کرنے سے پہلے ہم مختصر طور پر ایک ماہ کے بچے کے بارے میں گفتگو کریں گے کیوں کہ یہ بہت خاص مرحلہ ہوتا ہے۔

ایک ماہ کا نومولود (Neonate)

یہ اصطلاح اس نومولود بچے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنی عمر کے پہلے مہینے میں ہو۔ ہم نومولود بچوں کو بالکل بیچارہ اور بے بس سمجھتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ وہ پوری طرح بڑوں پر منحصر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان میں اپنے آپ کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے تصور سے کچھ زیادہ ہی باشعور ہوتے ہیں۔

(i) غیر اختیاری عمل (Reflexes): نومولود بچوں کی بعض حرکات غیر اختیاری ہوتی ہیں جو ان میں حرکی قوتیں (Motor capabilities) پیدا ہونے سے پہلے تک ان کی بقا اور ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ غیر اختیاری حرکات سادہ اور یکھے بغیر اپنے آپ ہونے والے رد عمل کی شکلوں میں ہوتی ہیں جو کسی بیرونی محرک (Stimulation) کے جواب میں بروئے کار آتے ہیں۔ ان غیر اختیاری حرکات کے لیے اعلا دماغی سرگرمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بغیر سوچے اور خود بہ خود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی چیز آپ کی آنکھوں کو چھو جاتی ہے تو آپ خود بہ خود آنکھ کی حفاظت کے لیے پلک چھپکاتے ہیں۔ نومولود بچوں میں کچھ اور بھی غیر اختیاری عمل ہوتے ہیں مثلاً پستان چوسنے کا غیر اختیاری عمل (Sucking Reflex) کی مدد سے اس کو غذا ملتی ہے، یا مثلاً اخراجی غیر اختیاری عمل جس سے بچے کو پیشاب اور پاخانہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

(ii) حسی قوتیں (Sensory capabilities): پیدائش کے وقت دیکھنے کی حس سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ نومولود بچہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے اور سرگرمی کے ساتھ روشنی کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ ہلکی ہوئی چیز کے ساتھ نظریں گھماتا ہے اور جب کوئی چیز آٹھ انچ کے فاصلے پر ہو تو اس پر بہت اچھی طرح نظریں مرکوز کر سکتا ہے۔ شیر خوار بچوں میں انسانی چہرے پر نظریں ہمانے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔

نومولود بچے آواز پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور کسی بھی دوسری آواز کے مقابلے انسانی آواز پر زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بنیادی ذائقوں — میٹھا، کھٹا، نمکین اور تلخ — کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ وہ چھونے پر بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اچھی بری بو میں بھی امتیاز کر سکتے ہیں۔ وہ بدبو کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نومولود دن بھر میں 16 سے 18 گھنٹے، مرحلے وار سوتے ہیں اور جب وہ جاگ جاتے اور چونکنا ہوتے ہیں تو اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور جب ان کی دیکھ بھال کرنے والے ان سے تفاعل (Interaction) کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔

رونا (Crying): نومولود بچے رو کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بھوک، غصہ، درد اور بے چینی وغیرہ کے اظہار کے لیے

ان کے رونے کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے عام طور پر ان کے رونے کی وجہ سمجھ لیتے ہیں۔

11.5 مختلف مراحل کے دوران نشوونما (Development across stages)

اب ہم پڑھیں گے کہ انسانی زندگی کے پہلے چار مرحلوں — یعنی شیرخواری، ابتدائی بچپن، درمیانی بچپن اور نوجوانیت — کے دوران نشوونما کیسے ہوتی ہے۔

جسمانی اور حرکی نشوونما (Physical and motor development)

(i) وزن اور قد میں اضافہ: وزن اور قد میں سب سے زیادہ ڈرامائی اضافہ ولادت سے پہلے والے عرصے میں ہوتا ہے۔ اس دوران ایک واحد خلیے والا عضو یہ نشوونما پا کر تقریباً 20 انچ لمبا اور تقریباً 2.5 سے 3 کلوگرام وزن والا جنین بن جاتا ہے۔ تیز ترین نشوونما کا دوسرا دور شیرخواری کا ہوتا ہے۔ جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا وزن دو گنا ہو جاتا ہے اور جب وہ ایک سال کا ہوتا ہے تو پیدائش کے وزن کے مقابلے میں اس کا وزن تین گنا ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے ایک سال کے ہونے پر 8 سے 9 کلوگرام کے ہو جاتے ہیں۔

جدول 1: عمر کے مطابق وزن		
عمر کی حد	لڑکیاں (کلوگرام)	لڑکے (کلوگرام)
0-2 سال	3.2-11.5	3.3-12.2
2-5 سال	11.7-18.2	12.4-18.3
5-6 سال	18.3-20.2	18.5-20.5
6-7 سال	20.3-22.4	20.7-22.9
7-8 سال	22.6-25.0	23.1-25.4
8-9 سال	25.3-28.2	25.6-28.1
9-10 سال	28.5-31.9	28.3-31.2

اب، اپنے استاد کی مدد سے 19 سال کی عمر تک کا ایک جدول بنائیے۔

جدول 2: عمر کے مطابق قد		
عمر کی حد	لڑکیاں (سینٹی میٹر)	لڑکے (سینٹی میٹر)
2-5 سال	85.7-109.4	87.1-110.0
5-8 سال	109.6-126.6	110.3-127.3
8-11 سال	127.0-145.0	127.7-143.1
11-14 سال	145.5-159.8	143.6-163.2
14-17 سال	160.0-162.9	163.7-175.2
17-19 سال	162.9-163.2	175.3-176.5

ذریعہ: پیدائش سے 5 سال کی عمر سے متعلق چائلڈ گروتھ ریفرنس 2006 اور 5 سے 19 سال کے بچوں سے متعلق ڈیٹا بینچ (WHO) گروتھ ریفرنس کے اعداد و شمار۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ مطلوبہ صحت اور تغذیاتی شرائط کے تحت یہ وزن اور لمبائی حاصل ہو جائے گی۔ چھٹے ملکوں کے بچوں کو مذکورہ بالا معیاروں پر جانچا گیا تاکہ مذکورہ بالا معیار کو حاصل کیا جاسکے۔ ان چھٹے ملکوں میں ہندوستان بھی تھا۔

(ii) حرکی نشوونما (Motor Development): وسیع تر حرکی نشوونما (Gross Motor Development)

(بازوؤں اور ٹانگوں کا استعمال) لطیف حرکی مہارتوں (مثلاً ایک ہاتھ میں گلاس وغیرہ پکڑنا) کی نشوونما سے پہلے ہوتا ہے۔ یہاں ہم پہلے وسیع تر حرکی مہارتوں کے نشوونما کی منازل (Milestones) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر منزل کے حصول کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص مہینہ طے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشوونما کی شرح مختلف بچوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ طے نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی خاص منزل کب حاصل ہوگی۔ اگر کوئی بچہ متوقع عمر میں ایک سے زیادہ منزلیں حاصل نہیں کر پاتا تو یہ تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ بچپن کے پہلے دس سالوں میں اہم حرکی منزلیں ذیل کی جدول میں درج ہیں۔

جدول 3: حرکی نشوونما کی منزلیں		
نمبر شمار	عمر	منزل کی نوعیت
1-	پیدائش سے 3 ماہ تک	سر کا اٹھانا اور سر کا ٹھہرانا
2-	نومولود	نومولود بچے ایک طرف سے دوسری طرف تھوڑا سا سر ہلا سکتے ہیں
3-	1 ماہ	وہ اپنا سر اٹھا سکتے ہیں
4-	2 ماہ	وہ پیٹ کے بل لیٹ کر اپنا سینہ اٹھا سکتے ہیں
5-	3 ماہ	بچے کا سر ٹھہرنے لگتا ہے۔ یہ اس کے نشوونما کی اہم منزل ہے۔ اگر بچہ چھ ماہ میں ایسا نہیں کر پاتا تو اس کی نشوونما دہی رفتار سے ہو رہی ہے۔
6-	4-6 ماہ	وہ سیدھے سے الٹا (پیٹھ کے بل) اور الٹے سے سیدھا (پیٹ کے بل) ہو سکتا ہے
7-	6-8 ماہ	کسی بڑے کی ٹیک لگا کر یا کسی پیٹیوں والی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے
8-	8-9 ماہ	کسی ٹیک کے بغیر بھی بیٹھ سکتا ہے
9-	10-11 ماہ	گھٹنوں کے بل چل سکتا ہے۔ کچھ بچے گھٹنوں کے بل نہیں چلتے ہیں بلکہ جب وہ بیٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو براہ راست چلنا شروع کر دیتے ہیں۔
		بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آزادانہ طور پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں

10-	12-18 ماہ	• چلنا؛ شروع میں بچے کی چال مستحکم نہیں ہوتی لیکن رفتہ رفتہ مستحکم ہو جاتی ہے • دوڑنا؛ جب بچہ چلنا سیکھ لیتا ہے تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اکثر گرتا ہے۔ دو سال کی عمر میں جب توازن پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تال میل کے ساتھ اور بار بار گرے بغیر دوڑ سکتا ہے
11-	18-24 ماہ	• سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کا ہاتھ تھام لے تو ہر سیڑھی پر ایک قدم رکھ کر زینہ یا سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے
12-	2 سال	• پیچھے کی طرف چل سکتا ہے۔ ڈھال پر اتر سکتا ہے، سیڑھی چڑھ سکتا ہے • کسی نیچے چوڑے سے دونوں پیروں کی مدد سے کود سکتا ہے
13-	3 سال	• ایک پاؤں پر توازن برقرار کر سکتا ہے • بڑی گیند پر لات مار سکتا ہے • گیند پھینک سکتا ہے اور پکڑ سکتا ہے
14-	3-4 سال	• بڑوں کی طرح کسی چیز کے سہارے ایک کے بعد ایک قدم رکھ کر سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے
15-	5 سال	• کودنا اور تین پہیوں والی سائیکل چلانا
16-	6 سال	• اچھے تال میل کے ساتھ اچھلنا، کودنا اور چڑھنا
17-	7 سال	• سائیکل چلانا اور اس کو توازن میں رکھنا
18-	8-10 سال	• اب اس میں توازن، تال میل اور طاقت آگئی ہے جس سے وہ مختلف کھیلوں اور جمناٹک میں شرکت کر سکتا ہے

لسانی نشوونما (Language Development)

جان داروں کی بہت سی ایسی انواع ہیں جن میں ایک ابلاغی نظام موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ ایسے جان داروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرتے ہیں اور اپنے اس طریقے کو سمجھتے بھی ہیں۔ کسی شہد کی مکھی کا بھنبھنانا دوسری مکھیوں کو بتا دیتا ہے کہ غذا کہاں اور کتنی دور ہے اور دشمن کہاں ہے۔ چڑیاں بھی اپنی خصوصی چچہاہٹ اور آوازوں سے یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ کس پیڑ یا جھاڑی پر بیٹھی ہیں۔ ایسے میں انسانوں کی زبان کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا یہ زبان بھی ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے؟ انسانوں کے علاوہ تمام جان داروں کا ابلاغ پیدائشی ہوتا ہے یعنی ان کا ابلاغ کسی تجربے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف انسان کے بچے میں زبان سیکھنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی آموزش پر ماحول کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور وہ لاتعداد خود ساختہ (Original) جملے بنا سکتا ہے۔ یہاں خود ساختہ وہ عمل ہے جو تقلیدی یا پیدائشی نہ ہو بلکہ فرد کی ذاتی کوشش ہو۔ انسان واقعات اور اشیا کا بیان کسی دوسرے وقت اور دوسری جگہ بھی کر سکتا ہے۔

سرگرمی 4

ایک ایسے 2 سالہ بچے اور اس کے والدین کا پتا لگائیے جو آپ کے بڑوس میں رہتے ہوں اور ان کی آپسی گفتگو کو غور سے سنیے۔ اگر ممکن ہو تو ان کی باتوں کو لکھ بھی لیجیے۔ دھیان دیجیے کہ بچے نے کیا کہا اور کیا بچے نے اس بات کو دہرایا جو اس کے ماں باپ میں سے کسی نے کہی تھی یا بچے نے خود ساختہ جملے بولے۔ اگر ہو سکے تو ایک ایسے بچے کا بھی پتا لگائیے جو اور چھوٹا ہو اور جس نے ابھی بولنا سیکھا ہو۔ اس کی باتوں کو غور سے سنیے۔ کیا بچے نے اپنے خود ساختہ جملے بولے یا اس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی باتوں کو دہرایا؟

تمام بچوں میں، وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، زبان کی نشو و نما یکساں مرحلوں اور یکساں ترتیب میں ہوتی ہے۔ عمر کے پہلے سال میں جب بچے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، جو آوازیں نکالتے ہیں ان کو ناقابل لسانی (Pre-linguistic) آوازیں کہتے ہیں۔ ان آوازوں میں رونا، غموں غاں کرنا اور بے معنی آوازیں نکالنا شامل ہے۔ تقریباً دو سال پورے ہوتے ہوئے بچہ ابتدائی الفاظ سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد زبان کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اور نو بلوغت تک وہ زبان کے استعمال میں ماہر ہو جاتا ہے۔ البتہ الفاظ کا ذخیرہ تمام عمر بڑھتا رہتا ہے۔ زبان سے متعلق ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بچے میں پہلے ہی دن سے بولنے سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تفہیم (حاصل ہونے والی زبان) کا عمل (زبان) کے استعمال (اظہاری زبان) سے پہلے ہوتا ہے۔

لسانی نشو و نما کے مراحل (Stages in Development of Language)

(i) بچے کے ابلاغ کی پہلی شکل رونا ہے۔ یہ رونا فطری یا پیداؤشی ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو رونا سکھا یا نہیں جاتا۔ پہلے ماہ کے دوران یہی وہ پہلی آواز ہوتی ہے جو بچہ نکالتا ہے۔ بچہ روتا ہے تو بڑوں اور بڑے بچوں میں ایک عضویاتی رد عمل (Physiological response) پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بچے کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ بچے کا رونا اس کی مختلف ضروریات کا پتا دیتا ہے۔ بچہ اپنی مختلف جسمانی ضرورتوں — بھوک، درد، بیماری — کے اظہار کے لیے مختلف طریقوں سے روتا ہے۔

دوسرے مہینے میں بچے غموں غاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی فطری ہے۔ بچے حروف علت (Vowels) جیسی آوازیں — اووو — آآ — وغیرہ نکالتے ہیں۔ یہ آوازیں بچے اس وقت نکالتے ہیں جب وہ مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ جب بچہ غموں غاں کرتا ہے تو والدین باتیں کر کے، مسکرا کے یا بچوں کی سی آوازیں نکال کر اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر بچے کے دوبارہ غموں غاں کرنے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس طرح ایسا لگتا ہے جیسے بچہ اور والدین باتیں کر رہے ہوں۔ تقریباً 8 ماہ کا ہو جانے پر بچے کی غموں غاں کی آوازیں نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہیں اور 9 ماہ کا ہونے پر بچہ بے معنی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔

(ii) بچوں کی بے معنی آوازیں (Babbling) میں حروف صحیح (Consonants) کثرت سے ہوتے ہیں جیسے دا، ما، پا۔ بچہ ان آوازوں کو ملا کر ادا کرتا ہے تو ان سے داوا، ماما جیسی آوازیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ آوازیں انسانی بولی جیسی ہی لگتی ہیں۔ بچہ تمام انسانی زبانوں میں موجود تمام آوازیں ادا کر سکتا ہے۔ وہ ایسی آوازیں بھی ادا کر سکتا ہے جو جرمن یا افریقی زبانوں میں استعمال ہوتی ہیں اور جن کو اس نے کبھی سنا بھی نہیں۔ ایک بہر اچھے بھی غموں غاں کی آوازیں نکال سکتا ہے۔ حالاں کہ وہ دوسروں

کو بولتے ہوئے سن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں ثابت کرتی ہیں کہ بے معنی آوازیں نکالنا فطری ہے۔ بہر حال بچہ جن آوازوں کو اپنے ماحول میں نہیں سنتا ان کو رفتہ رفتہ چھوڑتا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی آموزش میں ماحول کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔

بچہ تقریباً پہلی سال گرہ کے آس پاس پہلا لفظ بولتا ہے۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بچے نے جو آواز نکالی ہے وہ لفظ ہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کیوں کہ بچہ اس کو ایک ہی معنی کے لیے لگاتا استعمال کرتا ہے۔ شروع میں الفاظ مختصر ہوتے ہیں جن میں ایک یا دو رکن کلمہ (Syllables) ہوتے ہیں جیسے پاپا، اماں، ٹاٹا، ماما وغیرہ۔ اٹھارہویں ماہ تک بچہ تقریباً دو رکن الفاظ ادا کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس زمانے تک بچہ تمام اشارے (Commands) اور بہت سے لفظوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ دو سال کی عمر تک بچہ تقریباً ڈھائی سو الفاظ جان جاتا ہے اور اس کے بعد ہر سال سیکڑوں الفاظ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے یوم پیدائش پر بچہ دو لفظی جملے بولنے کے لیے الفاظ کو ملانا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کے بولے ہوئے اولین الفاظ لوگوں، جانوروں اور چیزوں کے نام ہوتے ہیں یعنی اسما، کسی کام کو ظاہر کرنے والے الفاظ (بائی، بائی) اور اظہاری الفاظ (نہ، سلام)۔ کبھی کبھی بچہ ایسی چیزوں اور ایسے کاموں کے لیے بھی جن کے لیے اس نے الفاظ نہ سنے ہوں، کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے۔

بچوں کے ایک لفظی یا دو لفظی بولوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان سے وہ پورا مفہوم ادا ہو جاتا ہے جو مکمل جملوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح جب بچہ ماں کو دیکھتا ہے اور ’مئی‘ کہتا ہے تو اس پس منظر میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ’میں مئی کے پاس جانا چاہتا ہوں‘ یا ’میری مئی وہاں ہیں‘ یا کوئی اور دیگر مفہوم۔ یہ سادہ ایک لفظی یا دو لفظی جملے جن سے پورا مفہوم ادا ہو جاتا ہے ’ٹیلی گرافک زبان‘ (Telegraphic speech) کی مثالیں ہیں۔

دو سے تین سال کی عمر میں بچے نحوی لحاظ سے درست جملے استعمال کرنے لگتے ہیں اور اس کے جملوں کی ساخت میں وہ الفاظ بھی شامل ہونے لگتے ہیں جو ٹیلی گرافک زبان میں نہیں تھے یعنی حروف عطف، ملکیت ظاہر کرنے والے لفظ وغیرہ۔ چار سال کی عمر میں بچے کی زبان خوب مستحکم ہو جاتی ہے۔ اب بچے دیر تک بات چیت کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں اور گھما پھرا کر باتیں کرنے کا انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ چھ سال کی عمر میں ان کا ذخیرہ الفاظ تقریباً 10,000 ہو جاتا ہے۔ 7 سے 9 سال کی عمر میں بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لفظوں کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے چٹکوں اور معنوں سے بھی لطف اندوز ہونے لگتے ہیں جو زبان پر پڑتی ہوتے ہیں۔

سرگرمی 5

کسی دو سالہ بچے سے بات کیجیے یا باتیں کرتے ہوئے دیکھیے۔ جو جملے بچہ بول رہا ہے ان کو لکھ لیجیے۔ کیا وہ دو لفظی جملے تھے یا مکمل جملے۔ اگر وہ دو لفظی جملے تھے تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟

سماجی اور جذباتی نشوونما (Socio-emotional development)

- (i) ابتدائی رشتے اور جذبات (The early relationships and emotions): آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیرخوار بچے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ رشتے کس طرح قائم ہوتے ہیں؟

سرگرمی 6

یہ بات حیرت انگیز ہے کہ بچے پہلے ہی دن سے ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جس پر دیکھ بھال کرنے والے لوگ متوقع سماجی اور جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑوں کا طرز عمل بھی ایسا ہوتا ہے جس سے بچہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے طرز عمل کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے باہمی تفاعل میں مدد ملتی ہے اور باہمی تعلق کو فروغ ملتا ہے۔

(a) وابستگی کی تشکیل:

- 1- بچوں کی خبر گیری کرنے والے بچوں سے بہت قریبی جسمانی قربت رکھتے ہیں۔ ہم بچوں کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے ہی نہیں بلکہ محض دل خوش کرنے کے لیے بھی انھیں گود میں لیتے ہیں۔ بچوں کو جسمانی تعلق یا رابطے کی فطری ضرورت ہوتی ہے اور جب خبر گیری کرنے والے بچوں کو گود میں لیتے ہیں تو بچوں کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔
- 2- بڑے بڑے بچے جب شیر خوار بچوں سے بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے مادرانہ زبان (Motherese) کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے، سادہ الفاظ، آواز کا خاص قسم کا اتار چڑھاؤ اور بے معنی آوازیں شامل ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں سے بچے خوش ہوتے ہیں اور اپنی غول غاں کے ذریعے جواب بھی دیتے ہیں۔
- 3- ہم بچوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ہمیں مسکراتا دیکھ کر بچے بھی مسکراتے ہیں اور غول غاں بھی کرتے ہیں۔
- 4- بچوں کی خبر گیری کرنے والے یا والدین بچوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس طرح ان کے اور بچوں کے درمیان ایک قسم کا رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو اس طرح غور سے دیکھنا، دونوں کے درمیان تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے بہت اہم اور سماجی و جذباتی تفاعل کی پہلی شکل ہوتی ہے۔
- 5- جب دیکھ بھال کرنے والے لوگ چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں تو اپنے چہرے کے تاثرات کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح بچے مختلف جذباتی تاثرات میں امتیاز کرنا سیکھ لیتے ہیں۔
- 6- بچوں سے کھیلتے وقت ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کی حرکات میں اور گفتگو میں ایک طرح کی لے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا سر ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتے ہیں اور پھر اس کو آگے کر لیتے ہیں۔ ہم جو آوازیں نکالتے ہیں یا حرکتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ادھر ادھر جھولتے یا ڈولتے ہیں۔ ان سے بچے خوش ہوتے ہیں۔
- 7- جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے ان کے ساتھ آسان کھیل کھیلتے ہیں۔ آنکھ بھولی تمام معاشروں میں سب سے عام کھیل ہے۔

8- جب بڑے، بچوں سے کھیلتے ہیں تو بچے بھی ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے نئی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب بچہ بے چینی سے روتا ہے تو ماں بھاگی بھاگی آتی ہے۔ جب بچے غوں غاں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور خود اپنی ہی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دیکھ بھال رکھنے والوں میں بچوں کے تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے۔

والدین یادگیری کرنے والے بار بار بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، ان کے کپڑے بدلتے ہیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام دن میں کئی بار کیے جاتے ہیں۔ اس سے ان کے درمیان وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ اکثر حالات میں مائیں ہی بنیادی طور پر بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں اس لیے بچہ ان سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے۔ ماں سے رشتہ پہلا سماجی رشتہ ہے۔

اگر ماں کے ساتھ تعلق میں گرم جوشی اور خوش گواری نہیں ہوگی تو بچے میں جھجھلاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ بے چین اور چڑچڑاہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں، اگر اس کی جسمانی ضروریات پوری بھی ہو جائیں تو بڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ادھورا رہے گا یعنی بچہ مناسب وابستگی یا تعلق پیدا نہیں کر سکے گا۔ بہر حال اگر بعد میں اسے بہتر اور خوش گوار ماحول میسر آ جائے اور محبت کرنے والے اور اچھی طرح پالنے پوسنے والے لے جائیں تو اس صورت حال میں تبدیلی آ جاتی ہے۔

محفوظ وابستگی یا تعلق کی تشکیل زندگی کے پہلے سال میں نشوونما کا اہم ترین عمل ہے۔ کسی بالغ فرد کے ساتھ محفوظ رشتے قائم ہونا ہی بچے میں لوگوں پر اعتماد کا احساس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تحفظ کا احساس رکھنے والا بچہ کم روتا ہے، اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، خوف کی وجہ سے ہر وقت اپنی دیکھ بھال کرنے والے سے چپٹا نہیں رہتا اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پری اسکول کے دنوں میں ایسا بچہ جذباتی طور پر پُر جوش، سماجی طور پر پختہ، ساتھیوں میں مقبول، پُر تجسس اور خود پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے۔

اب تک ہم نے بچے کی اپنی ماں کے ساتھ وابستگی اور تعلق رکھنے کی بات کی ہے۔ والد کے ساتھ اس کی وابستگی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے سماج میں کام کی ایک روایتی تقسیم رہی ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ باپ روزی روٹی کمانے والا ہوتا ہے اور دن کے اکثر حصے میں گھر سے باہر رہتا ہے، جبکہ ماں اپنا بیشتر وقت بچے کے ساتھ گزارتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے والد سے وابستہ نہیں ہوتے؟ پھر ان خاندانوں میں کیا ہوتا ہے جہاں ماں کام کرتی ہے اور گھنٹوں تک گھر سے باہر رہتی ہے؟ تحقیقی مطالعات سے پتا چلا ہے کہ بچے کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں بچے کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کی مدت اہم نہیں ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ بالغ لوگ بچے کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کے دوران کیا کرتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باپ اور ملازمت پیشہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ نسبتاً کم وقت گزارتی ہیں جب وہ گھر پر موجود ہوں تو بچے ان کی توجہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے، ماں باپ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی کیفیت بڑی حد تک بچے اور ماں باپ کے درمیان وابستگی اور تعلق کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔

اولین ایک یا دو لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہونے کے بعد، بچے خاندان کے دوسرے لوگوں، خاص طور پر ان لوگوں

کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ربط میں آتے ہیں۔ اگر بچہ کسی ڈے کیئر سینٹر (Day care Centure) میں جاتا ہے جہاں اس کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے، جہاں وہ کھیلتا ہے اور آرام کرتا ہے تو وہاں دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ اس کے رشتے مثبت ہوتے ہیں۔

(b) بچوں کے جذبات: چھوٹے بچوں کے جذبات کے بارے میں محققین کے درمیان خاص بحث جاری رہی ہے کیوں کہ ہم بچے کے چہرے کے تاثرات اور اس کے جذبات کے درمیان کو ٹھیک ٹھیک نہیں جان سکتے۔ پھر بھی بچوں میں خوشی، بے چینی، غصے اور شدید برہمی جیسے جذبے ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچوں میں خوشی، دل چسپی، تجسس، غم، افسردگی اور خوف جیسے طرح طرح کے جذبے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ کی عمر میں بچہ اجنبیوں سے خوف کا اظہار کرنے لگتا ہے اور جب کوئی اجنبی پاس آتا ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بچہ مانوس چہروں سے خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس صورت کو اجنبیوں کا خوف (Stranger Anxiety) کہتے ہیں۔ یہ صورت 8 سے 12 ماہ کی عمر کے دوران اپنے عروج پر ہوتی ہے اور عمر کے 15 سے 18 ماہ کے درمیان غائب ہو جاتی ہے۔ ”اجنبیوں کا خوف“ ظاہر ہونے کے کچھ ہی دن بعد بچے میں ”جدائی کا خوف“ (Separation Anxiety) یعنی یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال کرنے والوں سے جدا نہ ہو جائے۔ جب ماں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی 12 سے 18 ماہ کی عمر میں اپنے عروج پر ہوتی ہے اور عمر کے 20 سے 24 ماہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بچے تمام حالات میں یکساں طور پر چونکا اور چوس نہیں ہوتے۔ یہ بات ان کے سابقہ تجربات، افتاد طبع اور آس پاس کے لوگوں کے مزاج پر منحصر ہوتی ہے۔

(ii) بچوں کی پرورش سے متعلق والدین کا طرز عمل (Parents' child rearing practices): والدین بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں تو اس عمل کو بچوں کی پرورش کہا جاتا ہے۔ والدین بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں اس کا بچوں کی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہم وہی طرز عمل اپناتے ہیں جنہیں ہماری برادری اور سماج مناسب سمجھتا ہے۔ ہم یہ باتیں اپنے والدین اور آس پاس کے دیگر لوگوں سے براہ راست یا پھر دوسروں کے عمل اور طریقوں سے بالواسطہ طور پر سیکھتے ہیں۔ وہ عمل جس کے ذریعے بچے مختلف طرز عمل، مہارتیں، اقدار، عقیدے اور معیار اخذ کرتے ہیں اسے سماجی ربط سازی (Socialisation) کہتے ہیں۔ سماجی ربط سازی کے مقاصد—یعنی یہ کہ ہم بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، مختلف معاشروں اور مختلف خاندانوں میں الگ الگ ہوتے ہیں۔

بچوں کے ساتھ ماں باپ کو کتنی محبت اور کتنا لگاؤ ہے اور وہ ان کے ساتھ کتنی گرم جوشی سے پیش آتے ہیں، اس معاملے میں سب والدین ایک جیسے نہیں ہوتے۔ گرم جوشی اور سرد مہری ایک ہی عمل کے دوسرے (Ends) ہیں اور والدین اس عمل کے مختلف نقطوں پر رہتے ہیں۔ بچوں کے طرز عمل کے تعلق سے بعض والدین پابندی پسند (Restrictive) ہوتے ہیں اور کچھ روادار (Permissive)۔ پابندی پسند والدین پابندیاں عائد کرتے ہیں اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ روادار قسم

کے والدین زیادہ پابندیاں عائد نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خود فیصلہ کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی پرورش کے سلسلے میں والدین کا پابندی پسند اور روادار ہونا بھی ایک اہم پہلو ہے۔

بچوں کی پرورش کے طریقوں کی زمرہ بندی نظم و ضبط (Discipline) کی ان تدابیر کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے جنہیں والدین استعمال کرتے ہیں۔ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے بعض والدین اپنے بچوں کو ان کے کاموں کے نتائج کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور اس طرح ان کو نامناسب کاموں سے باز رکھتے ہیں۔ ایسے والدین نظم و ضبط کے بارے میں بہت سخت ہوتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے بھی پیش آتے ہیں۔ اس کو ”محبت رخی طریق نظم و ضبط“ (Affection oriented Discipline Approach) کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف، بعض والدین اپنے بچوں کے کسی خاص طرز عمل کو روکنے کے لیے حکم دینے کا طریقہ اپناتے ہیں اور اس سلسلے میں نہ انہیں سمجھاتے ہیں نہ کوئی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ ان کو دھمکاتے ہیں اور جسمانی سزا دینے کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس کو تحکم رخی طریق نظم و ضبط (Power-Oriented Disciplining Approach) کہتے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک عمومی بات یہ ہے کہ والدین اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اچھی باتوں کا نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہیے جن کی وہ بچوں سے توقع کرتے ہیں۔ جب والدین بچے میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے سزا کا استعمال نہیں کریں گے، خاص طور پر جسمانی سزا نہیں دیں گے اور اس کے بجائے اچھی باتیں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کوششوں سے بچوں کی ہمہ جہت شخصیت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔

سرگرمی 7

آپ کو اپنے خاندان میں بعض والدین کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ اس باب میں پڑھا ہے اور والدین کا بچوں کے ساتھ جو سلوک دیکھا ہے کیا ان دونوں میں کوئی ربط ہے؟ اپنی رائے لکھیے۔ اپنی کلاس میں 5-4 طلباء کے گروپ بنائیے اور اپنے مشاہدات پر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیجیے۔

(iii) بھائی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ رشتے: ہمارے ملک کے اکثر گھروں میں ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں بڑا بچہ یا بڑی بچی چھوٹوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کی نشوونما پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بچے کے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے، ماں باپ کے ساتھ ان کے رشتوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ بھائی بہن عمر میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور اس لیے ان کے درمیان رشتے والدین سے رشتوں کے مقابلے میں زیادہ برابر کی، دوستانہ اور جمہوری ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کھیلنے اور ایک دوسرے پر اعتماد اور شرکت کرنے کے دوران بھائی بہنوں کے درمیان مثبت تعلقات انہیں جذباتی سہارا دیتے ہیں جس سے بچوں کی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ بڑے بھائی یا بڑی بہن کا طرز عمل چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے معیار بن جاتا ہے اور وہ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر بھی، بہن بھائیوں کے رشتوں میں بھی ٹکراؤ، مقابلہ آرائی، رقابت، حسد اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے جذبے موجود ہوتے ہیں اور ان کے

ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بہتر تعلق پیدا کرنے میں والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔
جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے دوست (Peers) بہت اہم ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے اکائی II میں باب ”اسکول کے دوست اور اساتذہ“ میں دوستوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یار دوستوں میں کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں کچھ اتنے قریبی نہیں ہوتے۔ بچہ جن ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، اور راز کی باتیں کرتا ہے ان سے دوستی اس کی سماجی اور جذباتی نشوونما میں معاون ہوتی ہے۔

سرگرمی 8

اگر آپ کا کوئی بھائی/بہن ہے تو اس کی دو خوبیاں تحریر کیجیے۔

1

2

اس کو آپ کی کون سی باتیں پسند ہیں؟ کوئی دو باتیں بیان کیجیے۔

1

2

وقوفی نشوونما (Cognitive Development)

وقوفی نشوونما کا مطلب ہے بچوں کے سوچنے کے عمل کی نشوونما۔ ’وقوف‘ یعنی سوچنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے اطراف کی دنیا کو کس طرح جانتے ہیں، معلومات کس طرح حاصل کرتے ہیں اور کس طرح انھیں پیش کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے اطراف کی دنیا کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ”سوچنے“ میں کون کون سے ذہنی عمل (Mental Processes) شامل ہیں۔

1. ہم ذائقوں، رنگوں، شکلوں، جاندار اور غیر جاندار چیزوں اور خوردنی اور غیر خوردنی اشیاء کے درمیان (جن کی فہرست میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں) فرق یا امتیاز کر لیتے ہیں۔
2. ہم اپنے جذبات کو بعض تجربات سے، بعض لوگوں کو کسی خاص قسم کے طرز عمل سے، کسی خاص موسم کو کسی خاص مہینے سے اور بعض خاص چیزوں کو بعض خاص لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں۔
3. ہمارے اکثر کام کسی ارادے اور کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم علت و معلول (Cause-effect) کے درمیان رشتوں کو سمجھتے ہیں۔
4. جس راستے سے آپ اسکول جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اسکول پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں یا پھر کسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے کوئی متبادل طریق کار استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح آپ مسائل حل کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں۔

ہم یاد رکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، معاملات کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں، تجربات اور احساسات کے درمیان رشتوں کو سمجھتے ہیں، مفروضہ حالتوں کے بارے میں سوچنے اور ان کا سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تجربی فکر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ (یعنی ہم ان خیالات اور تصورات پر بھی غور کرتے ہیں جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے جیسے جذبات و خیالات)۔

یہ تمام ذہنی اعمال ہماری سوچ کا حصہ ہیں اور وقوفی نشوونما کا مطالعہ انھیں ذہنی اعمال کی نشوونما کا مطالعہ ہے جو بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔

ژاں پیاژے (Jean Piaget) نے بچے کی پیدائش سے لے کر سن بلوغ تک وقوف کی نشوونما کے مراحل کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے مطابق بچوں میں وقوفی اعمال کی نشوونما منظم ترتیب سے یا مرحلے وار ہوتی ہے۔ بعض بچے کسی خاص عمر میں دوسرے بچوں سے آگے یا زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں لیکن نشوونما کی ترتیب عام طور پر نہیں بدلتی۔ پیاژے کے مطابق وقوفی نشوونما چار مرحلوں سے گزرتی ہے۔ یہ چار مرحلے ہیں۔ حسی حرکی مرحلہ (Sensori-Motor)، ماقبل عمل مرحلہ (Pre-operational)، ٹھوس عمل کا مرحلہ (Concrete operational) اور رسمی عمل کا مرحلہ (Formal operational)۔ اس حصے میں ہم بچے کے سوچنے کے عمل سے متعلق مختلف پہلوؤں اور اس میں ہونے والی ان تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے جو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک رونما ہوتی ہیں۔

(a) حسی حرکی نشوونما کا یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر دو سال کی عمر تک چلتا ہے۔ اس عرصے میں بچے اپنے حواس اور اپنی حرکی صلاحیتوں (سرگرمیوں) کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو حسی حرکی نشوونما کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح بچے دنیا کو اس بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حرکات و سکنات کا چیزوں اور لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور وہ انھیں کیسی لگتی ہیں؟ ایک لڑکی کسی کھلونے کو اس طرح پچپاتی ہے کہ وہ (کھلونا) اس کی آنکھوں کو کیسا لگتا ہے، یا اسے چھونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے (حسی معلومات) یا یہ کہ وہ اس کو پھینک سکتی ہے، اس پر ٹھوکر مار سکتی ہے، اس کو دھکیل سکتی ہے اور اس کو زمین پر پٹخ سکتی ہے (حرکی عمل)۔ وہ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتی کہ اس کے خواص کیا ہیں۔ وہ سخت ہے، نرم ہے، لکڑی کا بنا ہے یا دھات کا، چھوٹا ہے یا بڑا، ہلکا ہے یا بھاری وغیرہ۔ یہ سب تصورات ہیں اور بچہ ابھی ان کو نہیں سمجھتا۔

بچے میں بہت سی غیر اختیاری حرکات (Reflexes) ہوتی ہیں، جیسے ماں کا دودھ پینے کا عمل۔ دو ماہ کی عمر کے بچے اپنے اطراف کی چیزوں میں دل چسپی لینے لگتے ہیں۔ تین ماہ میں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسروں کے عمل کس بات کا اشارہ ہیں۔ مثلاً بچہ ماں کی کچھ حرکات و سکنات کی بنا پر جو وہ دودھ پلانے کے وقت کرتی ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ ماں اب دودھ پلائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بچوں میں حافظے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 4 سے 8 ماہ کی عمر میں بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے عمل کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ ہوا میں ٹانگیں چلاتا ہے تو گیند ہلتی ہے اور جب وہ کسی چیز کو گراتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ علت و معلول کے رشتے کو سمجھنے کی شروعات ہوتی ہے۔ 8 سے 12 ماہ کے دوران بچوں کی سرگرمیوں میں ارادہ شامل ہونے لگتا

ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کس کام کا کیا اثر ہوگا اور کون سا کام کس صورت میں مناسب ہوگا۔ 12 سے 18 ماہ کی عمر میں بچہ ہر کام کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنے لگتا ہے۔ وہ مختلف نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے کاموں کو مختلف انداز سے انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ یہ دیکھنے کے لیے کھلونے کو بار بار پھینکتا رہتا ہے کہ کھلونا کتنی دور جاتا ہے یا مختلف اونچائی سے پھینکنے سے زمین پر اس کے گرنے کی آواز میں کیا فرق پڑتا ہے۔ 18 سے 24 ماہ کے درمیان ایک اہم تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بچہ واقعات، چیزوں اور لوگوں کی ذہنی طور پر تصویر کشی کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں کسی خیال کی شکل یا تصویر بنا سکتا ہے۔ اس کو ذہنی نمائندگی (Mental Representation) کہا جاتا ہے۔

سرگرمی 9

کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ طرز عمل کیا ہیں؟ اپنا جواب لکھیے اور ہماری مندرجہ ذیل گفتگو سے اس کا موازنہ کیجیے

درج بالا بحث کی بنیاد پر کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بچے میں ذہانت اور سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

(b) ماقبل عمل مرحلہ 2 سے 7 سال: اس مرحلے اور اس سے پہلے کے مرحلے میں اہم فرق یہ ہے کہ اس مرحلے کے دوران بچہ تصورات (Concepts) قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں شکل، جگہ، سائز، وقت، فاصلہ، رفتار، تعداد، رنگ، علاقہ، حجم، وزن، جاندار، غیر جاندار، لمبائی، درجہ حرارت اور درحقیقت ہر اس چیز کا ابتدائی تصور (Preliminary Concept) پیدا ہو جاتا ہے جسے وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھتا ہے۔ کوئی تین سال کی عمر میں بچہ پہلے پہل دو چیزوں کے درمیان چھوٹی بڑی کا تصور قائم کرتا ہے۔ تقریباً چار سال کی عمر میں اگر اس کو تین چیزیں دی جائیں تو وہ سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ البتہ 6 سال کی عمر میں بھی اگر آپ اس کو پانچ تیلیاں دے دیں اور اس سے کہیں کہ وہ لمبائی کے لحاظ سے ان کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لگا دے تو وہ الجھن میں پڑ جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ بہت سی چیزوں پر بیک وقت غور نہیں کر سکتا اور ان کے سائز کا فرق نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صلاحیت بچپن کے درمیانی برسوں میں پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح اعداد کے تصور کا معاملہ ہے۔ بچہ ایک دم سے ایک دو تین اور اس کے آگے تک کے اعداد کا تصور نہیں کر سکتا۔ تین سال کا بچہ 10 تک کی گنتی کو دہرا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ پتھروں کے ڈھیر میں سے چھ پتھر اٹھالے تو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اعداد کا تصور قائم کرنے سے پہلے بچہ کم اور زیادہ، ایک اور بہت، کوئی نہیں اور بہت ریک سے زیادہ، ایک سے کم، اور برابر کے تصورات قائم کرتا ہے اور پھر بہتر ترتیب تین، چار، پانچ اور زیادہ چیزوں کو گن پاتا ہے۔

اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ماقبل عمل (Pre-operational) کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے، تو ہم پری اسکول عمر والے بچوں کے سوچنے کی صلاحیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وقوفی نشوونما میں لفظ عمل (Operation) کے خصوصی معنی ہیں۔ اس سے مراد ”وہ ذہنی عمل ہے جن میں چیزیں بدل جاتی ہیں یا ان کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہیں“۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عمل قابل رجعت (Reversible) ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ مٹی کے

کسی گولے کو چپا کر دیتے ہیں تو ذہنی طور پر آپ اس کو دوبارہ مٹی کے گولے کی شکل میں بھی لاسکتے ہیں کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ گول اور چپٹی دونوں ہی شکلوں میں مٹی کی مقدار ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے۔ لیکن جب آپ صرف پانچ سال کے ہیں تو اس وقت یہ بات آپ کے لیے اتنی سیدھی سادی اور واضح نہیں ہوگی۔ پری اسکول عمر والے بچے کی سوچ ماقبل عمل (Pre-operational) کہلاتی ہے کیوں کہ اس وقت بچہ ذہنی طور پر کسی عمل کو الٹ (Reverse) نہیں سکتا اور وہ اس صورت حال میں موجود منطق کو سمجھنے کے بجائے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آئیے ہم پری اسکول عمر والے بچوں کی سوچنے کی صلاحیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(i) **تحفظ (Conservation):** اس اصطلاح کا مطلب یہ سمجھ لینے کا اہل ہو جانا ہے کہ بعض چیزوں کی مقدار ان کی شکل بدل جانے پر یا ان کے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل ہو جانے پر بھی وہی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر مساوی قطر اور لمبائی کے دو گلاس لیجیے اور ان میں کسی کیساں سطح تک پانی بھر دیے۔ پھر کسی پری اسکول عمر والے بچے کے سامنے ان میں سے ایک گلاس کے پانی کو کسی تیسرے تنگ گلاس میں ڈالیے۔ اب ظاہر ہے کہ تنگ گلاس میں پانی کی سطح اونچی ہو جائے گی۔ ایک پری اسکول بچہ یہ کہے گا کہ تنگ گلاس میں پانی زیادہ ہے کیوں کہ پانی کی سطح اونچی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بچہ تحفظ کے تصور کو نہیں سمجھتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ جن حالتوں سے بچہ مانوس ہے وہاں وہ تحفظ کو سمجھتا ہے اور جن صورتوں سے وہ واقف نہیں ہے ان میں تحفظ کو نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر 4-3 سال کا کوئی بچہ روزی روٹی کمانے کے لیے لیمن سوڈا تیار کرنے میں روزانہ اپنے باپ کی مدد کرتا ہے تو وہ اس بات پر کسی الجھن کا شکار نہیں ہوگا کہ جب سوڈا بوتل سے گلاس میں انڈیلا جاتا ہے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے کیوں کہ یہ اس کا ہر روز کا تجربہ ہے۔ جب بچہ 6-7 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ تحفظ کے تصور کو سمجھنے لگتا ہے۔ ہم اس کا مطالعہ اگلے مرحلے میں کریں گے۔

(ii) **ترتیب کاری (Seriation):** اس اصطلاح کا مطلب ہے چیزوں کو کسی ترتیبی نظام میں رکھنا۔ مثلاً مختلف سائز کی پانچ پینسلوں کو بڑی سے چھوٹی یا چھوٹی سے بڑی ترتیب میں لگانا اس کی ایک عام سی مثال ہے۔ ممکن ہے کوئی پری اسکول عمر کا بچہ تین پینسلوں کو صحیح ترتیب سے لگا دے لیکن چوتھی پینسل کی ترتیب میں شبہ میں پڑ جائے اور پانچویں پینسل لگا ہی نہ پائے۔

(iii) **دوسرے شخص کے تناظر کو سمجھنا (Taking another Person's Perspective):** اس مرحلے میں بچہ صورت حال کے کسی ایک پہلو پر توجہ مرکوز کر لیتا ہے اور چیزوں کو دوسروں کے تناظر سے نہیں سمجھ پاتا۔ مثلاً اگر آپ کسی گیند کو کسی ایسی جگہ چھپا دیں جہاں وہ بچہ کو نظر نہ آئے لیکن کمرے کی مخالف سمت میں موجود شخص کو نظر آجائے تو بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرا شخص گیند دیکھ سکتا ہے۔ کوئی پری اسکول عمر کا بچہ یہ مان لیتا ہے کہ دوسرے لوگ کسی صورت حال کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ خود دیکھتا ہے۔ بچے کی اس سوچ کو ”خود مرکوزیت“

(Egocentrism) کہتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے پری اسکول عمر ختم ہوتی جاتی ہے بچہ صورت حال کو دوسروں کے تناظر سے بھی دیکھنے کا اہل ہوتا جاتا ہے۔

(iv) اپنی مزہ (Animism): اس مرحلے میں بچے کی سوچ کی ایک اور دل چسپ خصوصیت یہ ہے کہ بچے ہر چیز کو جاندار سمجھ لیتے ہیں۔ اسے اپنی مزہ کہتے ہیں۔ جب ہم بچوں سے، بولنے والے پیڑوں اور بادلوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے ”اچانک“ سوچنا شروع نہیں کر دیتے۔ سوچنے کا عمل، حواس اور ذہن کے درمیان بڑھتے ہوئے ربط کے ذریعے ذہنی صلاحیتوں کے بتدریج فروغ کا نام ہے۔

(c) ٹھوس عملی مرحلہ 7 سے 11 سال: یہ مرحلہ درمیانی بچپن کے مرحلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب بچہ کیے گئے کاموں (Performed actions) کو ذہنی طور پر الٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ماقبل عمل کے مرحلے کے بچے کے برخلاف، جو صرف ایک وقت میں کسی ایک جہت پر ہی توجہ مرکوز کر سکتا ہے، ٹھوس عملی مرحلے میں بچہ کسی ایک وقت میں صورت حال کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ اس طرح بچہ تحفظ (Conservation) کے تصور کو بھی سمجھ سکتا ہے اور کسی بھی صورت حال میں کسی بھی چیز کو ترتیب میں لگا سکتا ہے۔ دوسرے گلاس میں پانی انڈیلنے والی سابقہ مثال میں اب بچہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ چوڑے گلاس سے پتلے گلاس میں پانی انڈیلنے پر پانی کی مقدار نہیں بدلے گی کیوں کہ اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔

اس مرحلے میں بچے خود مرکز (Less egocentric) ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہی واقعے کو مختلف لوگ احوال اور اقدار کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سمجھ سے عام طور پر جذبات کی نشوونما میں اور خاص طور پر ہم دردی اور ذہنی ہم آہنگی کے جذبات کی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔

اس عمر میں آنے کے بعد بچے میں اعداد کا ایک پائیدار تصور (Stable number concept) ترقی پاتا ہے اور بچہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی عدد کتنی مقدار کو واضح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ گننے میں بھی غلطی نہیں کرتا۔ اب بچہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی چیز کا تعلق مختلف زمروں سے ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ گٹھلی دار پھل اور بغیر گٹھلی والے پھلوں کو الگ الگ زمروں میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں ہونے والے پھلوں اور گرمیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں کو بھی زمرہ بندی کیا جاسکتا ہے۔ پھلوں کی زمرہ بندی ان کے مزے یا ذائقے کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک ہی پھل اپنی زمرہ بندی کے معیار کی بنیاد پر مختلف مجموعوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی زمرہ بندی کی صلاحیت بڑے ہونے پر منطقی نشوونما کی طرف لے جاتی ہے۔

سرگرمی 10

آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کی بنیاد پر دو بچوں سے بات کیجیے، جن میں ایک ماقبل عمل کے مرحلے میں ہو اور دوسرا ٹھوس عمل کے مرحلے میں۔ ان میں سے ایک کے ساتھ ”تحفظ“ اور دوسرے کے ساتھ ترتیب (Seriation) کے تجربات کو دہرائیے۔ نتیجہ بھی لکھیے۔

(d) رسمی اعمال کا مرحلہ 11 سے 18 سال: 11 سے 12 سال کی عمر میں بچہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ دراصل اب اس کا بچپن نہیں رہا بلکہ نوبل و نعت کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ سب اب رسمی اعمال کے اہم مرحلے میں ہیں۔ اس مرحلے کی سب

سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ نوبالغوں کی سوچ صرف ٹھوس رمادی واقعات، چیزوں اور صورت حال تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ ان میں خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں، تجریدی سوچ (Abstract Thinking) کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے نے اس سے پہلے والے مرحلے میں ہی سوچ کی تقلیب (Reversibility) کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور اب وہ نوبالغ ہونے پر اپنی اس صلاحیت کا اطلاق خیالات پر بھی کر سکتے ہیں اور متعدد امکانات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ کسی موضوع پر ابتدا سے انجام تک اور پھر اس کی الٹی بحث کر سکتے ہیں۔ نوبالغ مفروضات کی دنیا بھی دریافت کر لیتے ہیں، ایسی دنیا جس کا کوئی وجود نہیں مگر ممکن ہو سکتا ہے اور پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا...؟ مفروضاتی سوچ (Hypothetical thinking) کی اسی خوبی کی وجہ سے نوبالغوں میں انوکھے خیالات یا خیالی منصوبے — جیسے دنیا کو بدل ڈالنے کا خیال — جنم لیتے ہیں۔ نوبالغوں کی سوچ عینیاتی — (idealistic) اور خیالی (Utopian) ہوتی ہے۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں مثالی تصورات یا خیال قائم کر لیتے ہیں۔ وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس کو بدل دینے کا خواب دیکھتے ہیں اور بڑوں کی ست روی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔

نوبالغوں کی سوچ زیادہ منطقی ہو جاتی ہے، ان کا استدلال زیادہ با منظم ہو جاتا ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کے زیادہ اہل ہو جاتے ہیں۔ آزمائشی تجربات کے ذریعے سیکھنے (Trial and error learning) کا سہارا لینے کے بجائے وہ کسی عمل کے دیگر امکانات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سوچنے کے اس طریقے کو ”مفروضی استخراجی استدلال“ (Hypothetico-deductive reasoning) کہتے ہیں۔

نوبالغ بچے اپنے خیالات کو جانچنے پر کھنے کے زیادہ اہل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ہی سوچ کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں۔ اسے اورائی فکر (Meta-thinking) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کچھ خیالات یوں ہیں: ”میں اس طرح ہی کیوں سوچتا ہوں؟“، ”آج میں اپنے کل کے خیالات پر دوبارہ غور کرنا چاہتا ہوں“۔ نوبالغوں کی سوچ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ ’خیالی مخاطب (Imaginary audience) پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے بارے میں ذاتی توہمات کا ایک سلسلہ قائم کر لیتے ہیں۔ ’خیالی مخاطب‘ کا مطلب یہ ہے کہ نوبالغ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیشہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے ہر ایک عمل پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نوبالغ بچے اپنی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بہت محتاط اور فکر مند رہتے ہیں۔ ذاتی توہمات کا مطلب یہ ہے کہ نوبالغوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جس تکلیف یا جذبات سے وہ دوچار ہیں اس سے کوئی اور دوچار نہیں کیوں کہ وہ دوسرے تمام لوگوں سے الگ اور یکتا ہے۔

اس موقع پر آپ اس بحث کو یاد کیجیے جو آپ نے اکائی 1 کے پہلے حصے میں ”خود کے نشوونما“ کے بارے میں پڑھی تھی۔ کیا آپ کو نوبالغوں کی سوچنے کی صلاحیت اور نوبالوغت کے دوران خود کے احساس اور خود شناسی کی تشکیل میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ شناخت کے جس بحران سے کوئی نوبالغ دوچار ہوتا ہے وہ رسمی عمل (Formal operation) کے مرحلے میں اس کی سوچنے کی صلاحیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔

اس باب سے آپ کو بچپن کے زمانے میں بچوں کی نمو اور ان کی نشوونما کی خصوصیات اور نشوونما کے دوران اچھے تغذیے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ آئندہ باب میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ تغذیے کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے بچوں کی صحت اور سلامتی کو کس طرح برقرار رکھا جاسکتا ہے؟

کلیدی اصطلاحات اور ان کے معنی (Key terms with meaning)

نشوونما (Development): بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی مختلف دائروں (Domains) میں ہونے والی منظم اور ترتیب وار تبدیلیاں۔ یہ تبدیلیاں کیفیاتی اور کمیتی (Qualitative and Quantitative) دونوں قسم کی ہوتی ہیں اور ان ہی تبدیلیوں کے نتیجے میں عمل کی پیچیدگی (Complexity in functioning) میں اضافہ ہوتا ہے۔

وابستگی (Attachment): انسیت اور محبت کا وہ تعلق جو پہلے سال میں شیرخوار بچوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے بالغ لوگوں کے درمیان استوار ہوتا ہے۔ بیشتر حالات میں یہ بالغ فرداں ہوتی ہے۔

تعلق (Bonding): بچے اور بالغ فرد کے درمیان وابستگی۔

بچوں کی پرورش کے طریقے (Child Rearing Practices): وہ طریقے جو والدین بچوں کو پالنے پوسنے اور انھیں کو بہتر اور پسندیدہ اطوار و اقدار سکھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔

روادار والدین (Permissive Parents): جو والدین اپنے بچوں پر کم پابندیاں عائد کرتے ہیں اور ان کو خود اپنے فیصلے کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔

پابندی پسند والدین (Restrictive Parents): جو والدین اپنے بچوں پر زیادہ پابندی لگاتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں اور بچوں کو اپنی پسند کے مطابق کام کرنے کی آزادی بہت کم دیتے ہیں۔

خودمرکزیت (Egocentrism): یہ مفروضہ کہ ہر شخص کسی صورت حال کو ہماری ہی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے یا یہ کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں دوسرے بھی ویسے ہی سوچتے ہیں۔

تجربیدی سوچ (Abstract thinking): ان حالات یا چیزوں کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت جو اس وقت واقع نہ ہو رہی ہوں یا موجود نہ ہوں۔

ماورائی فکر (Meta-thinking): خود اپنی طرز فکر کے بارے میں غور کرنا، یہ جائزہ لینا کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں، اپنی سوچ کے عمل کے بارے میں سوچنا۔

سوالات برائے نظر ثانی

- 1- نمو اور نشوونما کے درمیان امتیاز کیجیے۔ مثالوں کے ذریعے نشوونما کے مختلف دائروں کی تعریف کیجیے۔
- 2- بچے کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک اس کی صحت مندانہ نشوونما کے فروغ کے لیے کن حالات اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟
- 3- کیا آپ یہ کہیں گے کہ کوئی نومولود بچہ (Neonate) بے بس ہوتا ہے؟ اپنے جواب کے دلائل بھی دیجیے۔
- 4- پیدائش سے لے کر دس سال کی عمر تک حرکی نشوونما (Motor Development) کی ترتیب بیان کیجیے۔
- 5- وضاحت کیجیے کہ عمر کے پہلے سال میں بچہ اپنی ماں ردیکھ بھال کرنے والوں سے کس طرح وابستگی قائم کرتا ہے؟
- 6- بچوں میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے محبت آمیز طریقے اور تخم آمیز طریقے کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ بہتر ہے اور کیوں؟

- یا
- 7- وقوفی نشوونما کے درج ذیل مرحلوں میں سے ہر مرحلے کی اہم خصوصیات بیان کیجیے؟
 - حسی حرکی مرحلہ (Sensory-motor stage)
 - ماقبل عمل مرحلہ (Pre-operational stage)
 - ٹھوس عملی مرحلہ (Concrete operational stage)
 - رسمی عملی مرحلہ (Formal operational stage)

پیکٹکل 12

بقا، نمو اور نشوونما

- موضوع: بچوں کے کسی ادارے یا ان کے لیے منعقدہ کسی پروگرام میں جائے اور وہاں ہونے والی سرگرمیاں دیکھیے۔
- 1- مشغلہ: بچوں سے متعلق کسی پروگرام یا ان کے کسی ادارے میں جائے۔ (سرکاری/غیر سرکاری تنظیم)
 - 2- پروگرام یا ادارے کی سرگرمیاں دیکھیے۔
 - 3- اپنے مشاہدات پر مبنی ایک رپورٹ تیار کیجیے۔

عملی کام کا مقصد: ملک بھر میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہیں یا تو حکومت چلاتی ہے یا غیر حکومتی تنظیمیں۔ یہ ادارے اپنی برادری میں بچوں کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دیتی ہیں۔ یہ ادارے صحت، تعلیم، تغذیہ اور تفریح سے متعلق مختلف پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہر ادارے یا تنظیم کے اپنے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ تنظیمیں یہ بات پہلے سے ہی طے کر لیتی ہیں کہ انہیں کس عمر سے کس عمر تک کے بچوں

کے لیے کون سی خدمات انجام دینی ہیں اور بچوں کی عمر کا تعین مقصد کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ اس عملی کام کے ذریعے آپ اپنی برادری کی ایک ایسی ہی تنظیم کی سرگرمیوں سے واقف ہوں گے۔

عملی کام پر عمل درآمد

1. 10 طلباء کے گروپ بنائیے اور اپنے استاد کی مدد سے اپنی برادری میں کسی تنظیم کی طرف سے بچوں کے لیے چلائے جانے والے پروگرام کا پتا لگائیے۔ آپ کے استاد آپ کے لیے اس تنظیم کے پروگراموں میں ایک یا دو دن کی شرکت کی اجازت حاصل کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اس پروگرام میں شرکت کے لیے اپنے اسکول کے پرنسپل کا اجازت نامہ بھی لے کر جائیں تاکہ تنظیم کے کارکن آپ کو پروگرام میں شرکت کی اجازت دے دیں۔ (اگر پروگرام یا ادارہ بڑا ہو تو پوری کلاس بھی اس میں شرکت کر سکتی ہے)

2. اس ادارے یا پروگرام میں شرکت سے پہلے اس ادارے تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیجیے۔ اس سے وہاں پروگرام دیکھنے کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں ایک تصور قائم ہو جائے گا کہ کیا دیکھنا اور کیا کرنا ہے۔ پھر وہاں کے کارکنوں سے ان سرگرمیوں کے بارے میں آپ کو سوالات پوچھنے میں بھی مدد مل جائے گی۔

3. ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیے تاکہ اس دورے کے دوران آپ اپنے مشاہدات قلم بند کر سکیں۔

4. اپنے اس دورے کے دوران آپ درج ذیل نکات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں:

— پروگرام تنظیم کا نام: تنظیم حکومتی ہے یا غیر حکومتی

— تنظیم پروگرام کے عمومی اور خصوصی مقاصد

— ادارے یا پروگرام میں کس عمر کے بچوں کو شامل کیا گیا ہے؟

— پروگرام ادارے کی سرگرمیاں کیا کیا ہیں؟

— تنظیم میں کام کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کی کیا ذمے داریاں ہیں؟

— تنظیم کے مالی وسائل کیا ہیں؟

یہ ساری معلومات تنظیم کے کارکنوں سے بات چیت کر کے یا پھر ”تنظیم کے تیار کردہ کسی کتابچے وغیرہ کی مدد سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان سرگرمیوں کو کس طرح انجام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تنظیم ابتدائی بچپن سے متعلق تعلیمی خدمات مہیا کرتی ہے تو کم از کم ایک گھنٹے تک یہ دیکھیے کہ پری اسکول ٹیچر یا آنگن واڑی کارکن بچوں کے ساتھ ان سرگرمیوں کو کس طرح انجام دیتا ہے؟ یا اگر صحت کے بارے میں کچھ جانچ کرائی جا رہی ہے تو وہاں بیٹھیے اور دیکھیے کہ یہ پروگرام کس طرح چلایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو پروگرام بھی چل رہے ہیں ان میں آپ کو دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔

5. اپنے اس دورے کے بارے میں تقریباً چار صفحے کی ایک رپورٹ تیار کیجیے اور ہم نے اوپر چوتھے نمبر پر جو مختلف پہلو بیان کیے ہیں ان کے تحت معلومات فراہم کیجیے۔ آپ کی رپورٹ کے آخری حصے کا عنوان ”نتیجہ“ ہونا چاہیے۔ ”نتیجہ“ عنوان کے تحت آپ

تنظیم، پروگرام اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔

زاید سرگرمی

بقا، نمو اور نشوونما

درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس میں جن مسائل پر گفتگو کی گئی ہے ان پر اپنی کلاس کے دو تین ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کیجیے۔ اس کے بعد آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔

انسانی ترقیاتی اشاریہ یا (Human Development Index, HDI) جو مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہوتا ہے:

- متوقع عمر (Life Expectancy)
- خواندگی (Literacy)
- تعلیمی اکتساب (Educational attainment) اور
- فی کس مجموعی ملکی پیداوار (GDP per capita)

اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام (United Nations Development Programme) کے مطابق انسانی ترقی (Human Development) لوگوں کے لیے ترقی کے امکانات کی ترجیحات کو وسیع تر کرنے اور ان کو تعلیم، صحت، آمدنی اور روزگار وغیرہ کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کا عمل ہے۔ انسانی ترقیاتی اشاریہ کا استعمال بنیادی طور پر انسانی ترقی کی سطح کے اعتبار سے ملکوں کی زمرہ بندی کے لیے ہے۔ اس زمرہ بندی کے تحت اس بات کا تعین کرنا بھی شامل ہوتا ہے کہ کوئی ملک ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ہے یا غیر ترقی یافتہ؟

اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام (UNDP) کے مطابق انسانی ترقی، ترقی کا ایک ایسا تصور ہے جو صرف قومی آمدنی کے بڑھنے یا گھٹنے تک محدود نہیں ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے ماحول کو پیدا کرنے سے ہے جس میں لوگ اپنی تمام صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں اور اپنے مفادات اور اپنی ضروریات کے مطابق ایک مفید اور تخلیقی زندگی گزار سکیں۔ دراصل قوموں کا اصل سرمایہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح، ترقی کا تعلق لوگوں کے ترقیاتی امکانات کو وسیع تر کرنے سے ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ترقی صرف اقتصادی نمو کا نام نہیں ہے۔ اقتصادی نمو محض لوگوں کے ترقیاتی امکانات کو وسیع تر کرنے کا ذریعہ ہے۔

ان امکانات کو وسیع تر کرنے کے لیے لوگوں کی صلاحیت سازی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ انسانی صلاحیتوں میں ایسے تمام امکانات شامل ہیں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا بن سکتے ہیں۔ طویل اور صحت مند زندگی، علم کا حصول، بہتر معیار زندگی کے لیے ضروری وسائل کی دست یابی اور سماجی زندگی میں بھرپور شرکت کی اہلیت انسانی ترقی کے لیے بنیادی صلاحیتیں ہیں۔ ان کے بغیر نہ تو بہت سے امکانات روشن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بہت سے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔

اب ہم ان اصطلاحات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہم انسانی ترقیاتی اشاریہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

متوقع عمر (Life Expectancy): یہ پیدائش کے وقت متوقع عمر کے برسوں کی اوسط تعداد ہے۔ خواندگی کی روایتی

تعریف لکھنے اور پڑھنے کی اہلیت یا لکھنے، پڑھنے، سننے اور بولنے کے لیے زبان کا استعمال کرنے کی اہلیت کی بنیاد پر کی جاتی رہی ہے۔ موجودہ تناظر میں خواندگی کا مطلب لکھنے اور پڑھنے کی ایسی صلاحیت سے ہے جس کے ذریعے دوسروں سے بات چیت یا پھر لکھنے پڑھنے کی ایسے معیار کے حصول سے ہے جس سے کوئی شخص ایک پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سمجھ سکے اور اظہار خیال کے قابل ہو جائے اور اس طرح سماج کا حصہ بن سکے۔

تعلیمی اکتساب کی اصطلاح کو اعداد و شمار کے ماہرین، تعلیم کے اس بلند ترین معیار کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے۔

مجموعی ملکی پیداوار (GDP) یا مجموعی ملکی آمدنی (GDI) کسی ملک کی معیشت کے لیے قومی آمدنی یا قومی پیداوار کی پیمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار (GDP) ایک خاص عرصے میں کسی ملک میں پیدا ہونے والی تمام مصنوعات اور خدمات کی بازار کے مطابق طے شدہ قدر و قیمت ہے۔ (اس عرصے سے عام طور پر ایک کلینڈر سال مراد ہوتا ہے)۔ مجموعی ملکی پیداوار کا مطلب کسی خاص عرصے کے دوران کسی ملک میں پیدا کی جانے والی تمام مصنوعات اور خدمات کے ہر پیداواری مرحلے (عبوری مرحلوں) پر جوڑی جانے والی قدر کی مجموعی صورت بھی ہے جسے پیسے کی قدر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

ترقی یافتہ ملک کی اصطلاح ان ملکوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کی معیشت (Economy) ترقی یافتہ ہے اور اس معیشت میں صنعت کے تریشری (tertiary) اور کوآرٹرنری (Quaternary) سیکٹر کا غلبہ ہوتا ہے۔ جن ملکوں پر یہ تعریف صادق نہیں آتی ان کو ترقی پذیر ملک کہا جاتا ہے۔ معیشت کا تریشری سیکٹر (جسے سروس سیکٹر یا سروس انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے) تین اقتصادی سیکٹروں میں سے ایک ہے۔ دیگر سیکٹروں میں ایک ثانوی سیکٹر (تقریباً مینوفیکچرنگ) ہے اور ایک ابتدائی سیکٹر (کان کنی، زراعت اور ماہی گیری) ہے۔ کبھی کبھی ایک فاضل سیکٹر "کوآرٹرنری سیکٹر" کی بات بھی کی جاتی ہے۔ (جو عموماً تریشری سیکٹر سے ہی متعلق ہے)

اقتصادی ترقی کی اس سطح کو عموماً زیادہ فی کس آمدنی اور بہتر انسانی ترقیاتی اشاریے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ جن ملکوں کی فی کس مجموعی ملکی پیداوار زیادہ ہوتی ہے انھیں ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے کی حیثیت صرف فی کس جی ڈی پی کی بنیاد پر متعین کی جائے تو یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔

عام طور پر ترقی پذیران ملکوں کو کہا جاتا ہے جن کا صنعتی نظام آبادی کے لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہوتا اور جہاں معیار زندگی عام حالات میں پست یا درمیانی ہوتا ہے۔ آبادی میں اضافے کی زیادہ شرح اور کم آمدنی میں بڑا گہرا تعلق ہے۔

انسانی ترقیاتی اشاریے سے انسانی ترقی کی تین جہتوں کا پیمانہ فراہم ہوتا ہے جس میں لمبی اور صحت مند زندگی (جس کو متوقع عمر سے ناپا جاتا ہے)، تعلیم یافتہ ہونا (جسے بالغوں کی خواندگی اور ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم میں داخلے سے ناپا جاتا ہے) اور بہتر معیار زندگی (جسے مساوی قوت خرید (PPP) اور آمدنی سے ناپا جاتا ہے) شامل ہے۔ یہ اشاریہ کسی بھی لحاظ سے انسانی ترقی کا جامع پیمانہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس میں صنف یا آمدنی کی نابرابری جیسے اہم اشاریے شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں انسانی حقوق یا سیاسی آزادی کے احترام وغیرہ کے ناقابل پیمائش اشاریے بھی شامل نہیں ہیں۔ صرف انسانی ترقی اور آمدنی اور سلامتی کے درمیان پیچیدہ رشتے کو دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔

UNDP کے مطابق 2005 میں ہندوستان سے متعلق انسانی ترقیاتی اشاریہ 0.619 تھا۔ اس کے مطابق 177 ملکوں میں سے ہندوستان کا 128 واں نمبر تھا جیسا کہ جدول 1 میں دیا گیا ہے۔

جدول 1: ہندوستان کا انسانی ترقیاتی اشاریہ (2005)				
ایچ ڈی آئی قدر	پیدائش کے وقت متوقع عمر (برسوں میں)	شرح تعلیم بالغان (فی صد، ابتدائی، ثانوی اور اعلا تعلیم کی سطحوں پر داخلے کی شرح (فی صد))	کس جی ڈی پی داخلی (فی کس پی پی پی، ڈالر میں)	
1 آئس لینڈ (0.968)	1- جاپان (82.3)	1- جارجیا (100.0)	1- آسٹریلیا (113.0)	لگژم برگ (60,228)
126- مراکش (0.646)	123- پاکستان (64.6)	112- روانڈا (64.9)	120- نامیبیا (64.7)	115- عرب جمہوریہ شام (3,808)
127- استوائی گنی (0.642)	124- کوموروس (64.1)	113- ملاوی (64.1)	121- ویت نام (63.9)	116- نکاراگوا (3,674)
128- ہندوستان (0.619)	125- ہندوستان (63.7)	114- ہندوستان (61.0)	122- ہندوستان (63.8)	117- ہندوستان (3,452)
129- زیریہ سولومون (0.602)	126- موریتانیہ (63.7)	115- سوڈان (60.9)	123- وانواتو (63.4)	118- ہونڈورس (3,430)
130- عوامی جمہوریہ لاؤ (0.601)	127- عوامی جمہوریہ لاؤ (63.2)	116- بروندی (59.3)	124- ملاوی (63.1)	119- جارجیا (3,365)
177- سیارالیون (0.336)	177- زامبیا (40.5)	139- برکینافاسو (23.6)	172- نائجر (22.7)	174- ملاوی (667)

اب درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے:

- 1- آپ 'انسانی ترقی' کے تصور کو کس طرح بیان کریں گے؟
- 2- آپ کسی ترقی پذیر ملک کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ ہندوستان کس طرح ایک ترقی پذیر ملک ہے؟
- 3- جدول 1 میں دیے گئے انسانی ترقیاتی اشاریہ (HDI) میں شامل پیمانوں کی بنیاد پر ہندوستان کے مقام کا دوسرے ملکوں سے موازنہ کیجیے؟
- 4- جدول 1 میں مذکور اشاریوں کے مطابق ہندوستان کا درجہ متعین کیجیے۔ کس پیمانے کی بنیاد پر ہندوستان کا مقام سب سے نیچا ہے؟ کس پیمانے کے حساب سے ہندوستان کا درجہ سب سے اوپر ہے؟